



الْمَلِكُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^ل
 بڑی برکت والا ہے وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا^ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ^ل
 اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور وہ زبردست (اور) بخشنے والا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا^ط مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ^ط فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ دُونِهَا^ل
 وہی ہے جس نے بنائے سات آسمان اوپر تلے۔ (اے دیکھنے والے) نہیں تو دیکھے گا رحمن کی تخلیق میں کچھ نقص۔ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ بھلا تجھ کو نظر آتا ہے (آسمان میں) کوئی

فُطُورٍ ﴿٣﴾

شکاف -

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ
إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾

پھر نظر کر دو بارہ۔ تو لوٹ آئے گی تیرے
پاس نظر (ہر بار) ناکام اور وہ ہوگی نامراد۔

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا
لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾

اور بیشک ہم نے نینت دی قریب کے
آسمان کو (تاروں کے) چراغوں سے۔ اور ان
کو بنایا مارنے کا آلہ شیاطین کو اور ہم نے تیار کر
رکھا ہے ان کے لئے عذاب دہکتی آگ کا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾

اور ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا اپنے
رب سے عذاب ہے جہنم کا۔ اور وہ برا
ٹھکانہ ہے۔

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ
تَفُورٌ ﴿٧﴾

جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں تو سنیں
گے اسکا چیخنا چلانا اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔

تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا
فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ

قریب ہے پھٹ پڑے جوش غمیز سے۔
جب ڈالی جائے گی اس میں کوئی جماعت تو
ان سے پوچھیں گے اس کے داروغہ کیا

نَذِيرٌ ﴿٨﴾

نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا۔

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّا أَنْتُمْ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾

وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور آیا تھا ہمارے
پاس ڈرانے والا۔ پس ہم نے جھٹلا دیا اور ہم
نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز۔
نہیں ہو تم مگر گمراہی میں بہت بڑی۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا
فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

اور کہیں گے اگر ہم ہوتے سنتے یا سمجھتے تو نہ
ہوتے دوزخیوں میں۔

فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ
السَّعِيرِ ﴿١١﴾

پس وہ اقرار کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ سو
(رحمت خدا) دور ہی ہے دوزخیوں کے
لئے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب
میں انکے لئے ہے مغفرت اور اجر کبیر۔

وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾

اور تم پوشیدہ کہو اپنی بات یا اعلانیہ کہو اسے۔
یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو سینوں میں ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْخَبِيرُ ۙ

بھلا نہ وہ جانے گا جس نے پیدا کیا۔ اور وہ
پوشیدہ باتوں کا جاننے والا آگاہ ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا
فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۙ

وہی تو ہے جس نے کیا تمہارے لئے زمین کو
نرم۔ تو چلو پھر اس کی راہوں میں اور کھاؤ اس
کا (دیا ہو) رزق۔ اور (تم کو) اسی کے پاس
(قبروں سے) نکل کر جانا ہے۔

ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ
بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۙ

کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں
ہے کہ دھنسا دے تم کو زمین میں اور وہ اس
وقت حرکت کرنے لگے۔

أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ
نَذِيرِ ۙ

یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے
کہ چھوڑ دے تم پر کنکر بھری ہوا۔ سو تم
عنقریب جان لو گے کہ کیسا رہا میرا ڈرانا۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۙ

اور یقیناً جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے
پہلے تھے۔ سو (دیکھ لو) کیسا ہوا میرا عذاب۔

کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور انکو سکیڑ لیتے ہیں۔ نہیں تھامے رکھتا انہیں کوئی سوائے رحمن کے۔ بیشک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتٍ
وَيَقْبِضْنَ^ط مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ^ط
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٦﴾

کون ہے بھلا ایسا جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کر سکے مقابلے میں رحمن کے۔ نہیں ہیں یہ کافر مگر دھوکے میں۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ
يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ
الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُوبٍ ﴿٢٠﴾

کون ہے بھلا ایسا جو تمکو رزق دے سکے اگر وہ بند کر لے اپنا رزق۔ بلکہ یہ پھنسنے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت (میں)۔

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ
أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ
وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

تو کیا وہ جو چلتا ہو اوندھا منہ کے بل۔ وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یا وہ جو چل رہا ہو بالکل سیدھا صراط مستقیم پر۔

أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ
أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾

کدو وہی تو ہے جس نے تمکو پیدا کیا اور بنائے

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ

السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾

تمہارے کان اور آنکھیں اور دل - (مگر) کم
ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
وَالِيهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

کہدو وہی ہے جس نے تمکو پھیلا یا زمین میں اور
اسی کے روبرو تم جمع کئے جاؤ گے۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾

اور (کافر) کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ (قیامت
کا پورا) ہو گا اگر تم سچے ہو (تو بتاؤ)۔

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

کہدو کہ بس اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور بس
میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کھول کر۔

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قِيلَ هَذَا الَّذِي
كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾

سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ قریب آگیا (وہ
عذاب) تو بگڑ جائیں گے منہ ان لوگوں کے
جنہوں نے کفر کیا۔ اور (ان سے) کہا جائے
گا کہ یہ وہی ہے تھے تم جسکے طلبگار۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِی اللَّهُ وَمَنْ
مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِیْبُهُ الْكُفْرِیْنَ

کہدو بھلا دیکھو تو اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور
وہ جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر مہربانی کرے۔ تو

مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ ﴿٢٨﴾

کون ہے جو پناہ دے گا کافروں کو اس عذاب سے جو دکھ دینے والا ہے۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾

کہدو کہ وہ رحمن ہے ہم ایمان لائے اس پر اور
اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ پس تمکو جلد معلوم ہو
جائے گا کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ
غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ
مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

کہدو بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے تمہارا پانی (جو تم
پیتے ہو اور برتتے ہو) خشک تو کون ہے (اللہ
کے سوا) جو لے آئے تمہارے لئے پانی کا
شفاف چشمہ۔

